

مختصر
مسنون دعائیں
اذکار اور دعائیں



فرض نمازوں کے بعد پڑھے جانے والے اذکار اور دعائیں

(اردو، انگریزی ترجمہ مع رومن عربی دعائیں)

**Farz Namazo ke Ba'ad Padhe
Jane Wale Azkaar aur Duaein**

●●● (Urdu, English Translation with Roman Arabic Dua) ●●●



مصنف
دکتر سید فضل الرحمن
آئی ایف ایم مدنی و فقہ

COPYRIGHT حقوق محفوظہ
All Rights Reserved سب حقوق محفوظہ

مختصر مسنون دعائیں اذکار اور دعائیں

فرض نمازوں کے بعد پڑھے جانے والے اذکار اور دعائیں

(اردو، انگریزی ترجمہ، سن رومن عربی دعائیں)

**Farz Namazo ke Ba'ad Padhe
Jane Wale Azkaar aur Duaein**

••••(Urdu, English Translation with Roman Arabic Dua)••••

SHAIKH Dr. ARSHAD BASHEER UMARI MADANI waffaqahullah

Hafiz and Aalim, Fazil (Madina University, K.S.A), M.B.A

Founder & Director of AskIslamPedia.com

Chairman: Ocean the ABM School, Hyderabad, TS, INDIA

+91 92906 21633 (WhatsApp only)

www.abmqurannotes.com | www.askislampedia.com | www.askmadanicom



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنُسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ
 أَنْفُسِنَا، وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ
 فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ
 أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ، وَمَنْ
 تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، وَسَلَّم تَسْلِيمًا كَثِيرًا، أَمَا بَعْدُ:

فرض نماز کے بعد پڑھے جانے والے اذکار اور دعائیں

کتاب کی خصوصیات

اس کتاب کے دعاؤں اور اذکار کی خصوصیات درج ذیل ہیں:

- (1) اس میں اذکار کی تعداد چھبیس (26) ہے۔
- (2) تصحیح کے لئے علمائے کرام کے اقوال پیش کئے گئے ہیں۔
- (3) اکثر دعاؤں کے چارٹس میں دس تا بارہ دعائیں ہی ہیں، الحمد للہ اس میں دعاؤں کا اضافہ کیا گیا ہے اور چوبیس تک دعائیں پیش کی گئی ہیں، اور تمام دعائیں صحیح کے درجے تک پہنچتی ہیں۔
- (4) حاشیہ میں مستدل حدیث بھی پیش کر دی گئی ہے۔
- (5) سند یا فہم سے متعلق اشکالات کے جوابات بھی درج کر دیئے گئے ہیں۔
- (6) فرض نماز کے بعد پڑھے جانے والے اذکار اور دعاؤں میں جو ضعیف اذکار تھے ان کا الگ باب (چاپٹر) بنایا گیا ہے
- (7) اذکار اور دعاؤں کے گیارہ احکامات اور مسائل ذکر کئے گئے ہیں۔ بارہ فضائل بیان

کئے گئے ہیں اور اکتیس اسباق بیان کئے گئے ہیں اور یہ کتاب تقریباً 177 صفحات پر مشتمل ہے۔

(8) جو لوگ مفصل کتاب کے بجائے صرف دعائیں پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لئے پاکٹ سیز کتابچہ بھی تیار کر دیا گیا ہے جو ستائیس (27) صفحات پر مشتمل ہے۔

(9) مساجد کے لیے تین الگ الگ زبانوں میں الگ الگ پوسٹر تیار کئے گئے ہیں مثلاً:

A. عربی + اردو ترجمہ۔

B. عربی + انگریزی ترجمہ۔

C. عربی + عربک رومن، اردو رومن اردو۔

(10) لوگوں کے اصرار پر مختصر اور مفصل دونوں کتابیں تین زبانوں یعنی عربی (عربک رومن)، اردو (اردو رومن)، انگریزی پر مشتمل ہے، اور مختصر کتاب میں مختصر حوالے بھی ذکر کر دیئے گئے اور مفصل کتاب میں ان حوالوں کی مکمل تشریح، علماء کے اقوال، صحیح اور ضعیف کی مفصل بحث بھی موجود ہے۔

(11) تسبیحات کے اعداد کے مطابق اور اوقات کے اعتبار سے اختلاف پایا جاتا ہے لہذا اس کی نشاندہی کر دی گئی ہے اور اس کے بابت مختلف تسبیح کے اعداد اور اوقات جو احادیث میں بیان کئے گئے خصوصیت کے ساتھ ان کو بھی ذکر کر دیا گیا ہے۔

(12) قارئین کی سہولت کے لئے تمام دعاؤں کو زبر، زیر اور پیش یعنی کہ اعراب کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔

الحمد للہ ان تمام خصوصیات کے ساتھ اس کتاب کو مختصر اور مفصل دونوں تیار کی گئی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرمائے اور جو لوگ اس کتاب سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں ان کی تمام دعاؤں، اذکار اور دیگر عبادت کو قبول فرمائے، آمین

والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
دکتر حفیظ الرحمن شیرانی مدنی وفقہہ

تاریخ: 25 / دسمبر / 2024ء

مطابق: 22 / جمادی الثانی / 1446ھ



فرض نماز کے بعد پڑھے جانے والے اذکار اور دعائیں

دعا نمبر: 1

نماز کے فوری بعد ایک مرتبہ بلند آواز سے

((اللَّهُ أَكْبَرُ)) "ALLAHU AKBAR" کہنا۔

(بعض علماء نے کہا کہ تین مرتبہ اللہ اکبر کہیں)

ترجمہ: "اللہ سب سے بڑا ہے"

Translation: Allaah is the Greatest

(صحیح البخاری: 842۔ صحیح مسلم: 583)



دعا نمبر: 2

تین مرتبہ بلند آواز سے

((أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ)) کہنا۔

"ASTAGFIRULLAH" (Teen martaba baland awaz ke sath)

ترجمہ: "میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتا ہوں۔"

Translation: "I seek forgiveness from Allaah."

(صحیح مسلم: 591)



((اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا
الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ))

“Allahumma Antassalaamu Waminkassalaamu Tabarakta
Yazaljalali wal ikraam

ترجمہ: "اے اللہ! تو ہی سلام ہے اور سلامتی تیری ہی طرف سے ہے، تو صاحبِ عظمت و
برکت ہے، اے جلال (عظمت والے) والے اور عزت بخشنے والے!"۔

Translation: "O Allah! Thou art Peace, and peace comes
from Thee; Blessed art You, O Possessor of Glory and
Honour".

(صحیح مسلم: 591)

نوٹ: صحیح مسلم [591] 1334 کی حدیث میں (ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ) سے
پہلے "یا" نہیں ہے، البتہ سنن النسائی: 1338۔ و سنن الترمذی: 300۔ و سنن ابن ماجہ
: 928، میں (ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ) سے پہلے "یا" کا اضافہ ہے اور ان تمام کی سند
صحیح ہے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ "یا" کے ساتھ مروی احادیث کو صحیح قرار دیا ہے۔



((لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ،
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا
مُعْطَى لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ))

“Laa ilaaha illallaahu wahdahu lasharikalahu, lahulmulku
walahulhamdu, wahuwa ala kulli shay’in qadeer. allahumma
la mani’a lima ataita, wala mutiya lima-manata, wala yanfau
zaljaddi minkaljaddu”

ترجمہ: "اللہ کے سوا کوئی عبادت کے مستحق نہیں۔ اس کا کوئی شریک نہیں۔ بادشاہت اس کی
ہے اور تمام تعریف اسی کے لیے ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ جسے تو دے اس سے
روکنے والا کوئی نہیں اور جسے تو نہ دے اسے دینے والا کوئی نہیں اور کسی مالدار کو اس کی دولت و
مال تیری بارگاہ میں کوئی نفع نہ پہنچا سکیں گے (ایمان و عمل ہی کام آنے والا ہے)۔"

Translation: “There is no Deity deserved to be worshipped
but Allah, Alone, no Partner to Him. The Kingdom and all
praise belongs to him alone , and All-powerful is He. O
Allah! Nobody can hold back what you gave, nobody can
give what You held back, and no struggler’s effort can
benefit against You.”

(صحیح مسلم: 593)



دعا نمبر: 5

((اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ))

“Allahumma A'inni ala zikrika Washukrika Wahusni
Ibadatika”

ترجمہ: "اے اللہ! اپنے ذکر، شکر اور اپنی بہترین عبادت کے سلسلہ میں میری مدد فرما۔"

Translation: "O Allah, help me in remembering You, in giving You thanks, and worshipping You well."

(سنن ابوداؤد: 1522، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا ہے)



دعا نمبر: 6

((لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ، وَلَهُ
الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ
الْكَافِرُونَ))

“La ilaaha Illallahu Wahdahu Lashareekalahu, Lahulmulku
Walahulhamdu, Wahuwa Alakulli Shay'in Qadeer, Lahawla
Wala Quwwata illaa billaah, La'ilaha Illaallahu

Wala Na'budu Illa'iyyahu, Lahunni'matu, Walahulfazlu,
Walahus-saana-ul-hasanu, Laa ilaaha Illallahhu
Mukhliseena Lahuddeena, Walaw Karihal Kafiroon”

ترجمہ "ایک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے مستحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، حکومت اور فرمانروائی اسی کی ہے اور وہی شکر و ستائش کا حقدار ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ گناہوں سے بچنے کی توفیق اور نیکی کرنے کی قوت اللہ ہی سے (ملتی) ہے، اس کے سوا کوئی حقیقی الہ و معبود نہیں۔ ہم اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرتے، ہر طرح کی نعمت اور سارا فضل و کرم اسی کا ہے، خوبصورت تعریف کا سزاوار بھی وہی ہے، اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، ہم اس کے لیے دین میں اخلاص رکھنے والے ہیں، چاہے کافر اس کو (کتنا ہی) ناپسند کریں۔"

Translation :” There is no god deserved to be worshipped but Allah. He is alone. There is no partner with Him. Sovereignty belongs to Him and He is Powerful over everything. There is no might or power except with Allah. There is no god deserved to be worshipped but Allah and we do not worship but Him alone. To Him belong all bounties, to Him belongs all Grace, and to Him is worthy praise accorded. There is no god deserved to be worshipped but Allah, to Whom we are sincere in devotion, even though the unbelievers disapprove it.”

(صحیح مسلم: 594)



دعا نمبر: 7

SUBHANALLAAH (33 دفعہ)۔

ترجمہ: تمام پاکی اور بڑائی اللہ کے لیے ہے۔

“Glorious is Allah”.

(صحیح مسلم: 597)



دعا نمبر: 8

ALHAMDULILLAAH (33 دفعہ) الْحَمْدُ لِلَّهِ

تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔

“Praises are due to Allah”.

(صحیح مسلم: 597)



دعا نمبر: 9

ALLAAHU AKBAR (33 دفعہ) اللَّهُ أَكْبَرُ

اللہ سب سے بڑا ہے۔

“Allah is the greatest”.

(صحیح مسلم: 597)

تسبیحات پڑھنے کے چار طریقے

- (1) تسبیح 33 مرتبہ، تحمید 33 مرتبہ۔ اللہ اکبر 34 مرتبہ اس طرح 100 پورا کرنا بھی ثابت ہے۔ (صحیح مسلم: 596)۔ اور تینوں 33 مرتبہ کر کے "لا اِلهَ اِلا اللهُ" والی دعا سے 100 کی تعداد پوری کرنا ایسا بھی ثابت ہے۔ (صحیح مسلم: 597)
- (2) اسی طرح "اللہ اکبر" 10 مرتبہ۔ سبحان اللہ 10 مرتبہ۔ الحمد للہ 10 مرتبہ۔ کل تعداد 30 ایسا بھی ثابت ہے۔ (صحیح بخاری: 6329)
- (3) اور اسی طرح سبحان اللہ 11 مرتبہ۔ الحمد للہ 11 مرتبہ۔ اللہ اکبر 11 مرتبہ۔ کل تعداد 33 مرتبہ بھی ثابت ہے۔ (صحیح مسلم: 595)
- (4) اور اسی طرح سبحان اللہ 25 مرتبہ۔ الحمد للہ 25 مرتبہ۔ اللہ اکبر 25 مرتبہ۔ لا الہ الا اللہ 25 مرتبہ۔ کل ملا کر 100 مرتبہ ایسا بھی ثابت ہے۔ (سنن الترمذی: 3413، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سنن النسائی: 1351 میں صحیح کہا ہے)



دعا نمبر: 10

((لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ))

“Laa ilaaha Illallahu, Wahdahu Lashareekalahu,
Lahulmulku Walahulhamdu, Wahuwa ‘Alakulli Shay’in
Qadeer”

ترجمہ: "اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اسی کی ہے اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔"

Translation: "None has the right to be worshipped except Allah, alone, without partner, to Him belongs all sovereignty and praise, and He is over all things omnipotent".

(صحیح مسلم: 597)



دعا نمبر: 11

آیت الکرسی: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾

“Allahu Laa Ilaaha illa huwal hayyulqayyoomu Laa ta'khuzuhu Sinatun Walaanawmun Lahu maafissamawati wama fil'arzi Manzallazee Yashfa'o Indahu Illaa'bi'iznihi Yaalamu Mabayna Aydeehim Wamakhalfahum Walayuheetoona Bishay'in-min'ilmihii Illaabimasha'a Wasiakursiyyuhu-ssamawati Walarz Walayaooduhi Hifzuhuma wahuwal aliyyulazeem”

ترجمہ: "اللہ ہی معبودِ برحق ہے جس کے سوا کوئی معبودِ برحق نہیں، جو زندہ اور سب کا تھامنے والا ہے، جسے نہ اونگھ آتی ہے نہ نیند۔ اسی کی ملکیت میں زمین و آسمان کی چیزیں ہیں، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ وہ اس کی مرضی کے بغیر کسی چیز کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اس کی کرسی کی وسعت نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے۔ اللہ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے اور نہ اکتاتا ہے۔ وہ بلند اور بہت بڑا ہے"

Translation: "Allah - there is no deity deserved to be worshipped except Him, the Ever-Living, the Sustainer of [all] existence. Neither drowsiness overtakes Him nor sleep. To Him belongs whatever is in the heavens and whatever is on the earth. Who is it that can intercede with Him except by His permission? He knows what is [presently] before them and what will be after them, and they encompass not a thing of His knowledge except for what He wills. His Kursi extends over the heavens and the earth, and their preservation tires Him not. And He is the Most High, the Most Great."

(سلسلہ الاحادیث الصحیحہ للالبانی: 972)



دعا نمبر: 12

سورة الاخلاص (ایک مرتبہ): ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [1] اللَّهُ الصَّمَدُ [2] لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ [3] وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ [4]﴾

Qul Huwallaahu Ahad[1] Allaahussamad[2] Lam'yalid
Walam'yoolad[3] Walam'yakun Lahu Kufuwan Ahad[4]

ترجمہ: "آپ (ﷺ) کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔"

Translation: Say, "He is Allah, [who is] One, (1) Allah, the
Eternal Refuge. (2) He neither begets nor is born, (3) Nor is
there to Him any equivalent(4)".

(سنن ابوداؤد: 1523، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے)



دعا نمبر: 13

سورة الفلق (ایک مرتبہ): ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ [1] مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ [2] وَمِنْ
شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ [3] وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ [4] وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا
حَسَدَ [5]﴾

Qul A'oozu Birabbilfalaq[1] Min Sharri Ma Khalaq[2]
Wamin Sharri Ghasiqin Izawaqab[3] Wamin
Sharrinfaasaati fil'uqad[4] Wamin Sharri Hasidin
iza'hasad[5]

ترجمہ: "آپ (ﷺ) کہہ دیجئے! کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے۔ اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے۔ اور گرہ لگا کر ان میں پھونکنے والیوں کے شر سے بھی۔ اور حسد کرنے والے کی برائی سے بھی جب وہ حسد کرے۔"

Translation: "Say, "I seek refuge in the Lord of daybreak (1) From the evil of that which He created (2) And from the evil of darkness when it settles (3) And from the evil of the blowers in knots (4) And from the evil of an envier when he envies"(5)".

(سنن ابوداؤد: 1523، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا ہے)



دعا نمبر: 14

سورة الناس (ایک مرتبہ) ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ [1] مَلِكِ النَّاسِ [2] إِلَهِ النَّاسِ [3] مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ [4] الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ [5] مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ [6]﴾

Qul A'oozu Birabbinnaas[1] Malikinnaas[2] Ilahinnaas[3] min sharril waswaasil khannaas[4] Allazee Yuwaswisu Fee Sudoorinnaas[5] Minaljinnati Wannaas[6]

ترجمہ: "آپ (ﷺ) کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں۔ لوگوں کے مالک کی اور لوگوں کے معبود کی پناہ میں، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ

جانے والے کے شر سے۔ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ خواہ وہ جن میں سے ہو یا انسان میں سے۔"

Translation: "Say, I seek refuge in the Lord of mankind, (1) The Sovereign of mankind. (2) The God of mankind, (3) From the evil of the retreating whisperer - (4) Who whispers [evil] into the breasts of mankind - (5) From among the jinn and mankind(6)."

(سنن ابوداؤد: 1523، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا ہے)

نوٹ: مسئلہ: (صبح و شام کے اذکار میں تین مرتبہ اخلاص اور معوذتین پڑھنے کا ذکر ہے اور پینچگانہ نمازوں کے بعد صرف ایک مرتبہ پڑھنے کا ذکر ہے، دونوں احکامات میں فرق ہے اور دونوں کے حکم کے تین غلط فہمی سے بچنا ضروری ہے)



دعا نمبر: 15

((رَبِّ قِنِي عَذَابِكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ))

"Rabbi qini Azabaka Yauma tab'asu Ibaadaka"

ترجمہ: "اے میرے رب! تو جب اپنے بندوں کو اٹھائے گا یا جمع کرے گا اس دن مجھے اپنے عذاب سے بچانا۔"

Translation: "O my Lord! save me from Thy torment on the Day when Thou, wouldst raise or gather Thy servants".

(صحیح مسلم: 709)



((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى
أَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ
عَذَابِ الْقَبْرِ))

“Allahumma’inni Aoozubika Minaljubni, Wa’aoozubika
An’uradda Ila’arzalilumuri, Wa’aoozubika
Minal Fitnatid dunya, Wa’aoozubika Min’azaabilqabri”

ترجمہ: "اے اللہ! بزدلی سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ عمر
کے سب سے اخیر حصے (بڑھاپے) میں پہنچا دیا جاؤں اور تیری پناہ مانگتا ہوں میں دنیا کے
فتنوں سے اور تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے۔"

Translation: "O Allah! I seek refuge with You from
cowardice, and seek refuge with You from being brought
back to a bad stage of old life and seek refuge with You from
the afflictions of the world, and seek refuge with You from
the punishments in the grave."

(صحیح البخاری: 2822)



((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ
وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ
الْمُقَدِّمُ، وَأَنْتَ الْمُوَخَّرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ))

“Allahummaghfirli Maa’qaddamtu Wamaa’akkhartu,
Wamaa’asrartu Wamaa-a’alantu, Wamaa’asraftu
Wamaa’anta a’alamu Bihiminni, Antalmuqaddimu,
Wa’antal Muakkhiru, La’ilaaha Illaa’anta”.

ترجمہ: "اے اللہ! بخش دے جو خطائیں میں نے پہلے کیں یا بعد میں کیں اور چھپا کر کیں یا
علانیہ کیں اور جو بھی زیادتی میں نے کی اور جس کا مجھ سے زیادہ تمہیں علم ہے (اطاعت
اور خیر میں) تو ہی آگے کرنے والا ہے اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہے اور تیرے سوا کوئی
عبادت کا حقدار نہیں۔"

Translation: "Forgive me of the earlier and later open and
secret (sins) and that where I made transgression and that
Thou knowest better than I. Thou art the First and the Last.
There is no god deserved to be worshipped , but Thee."

(سنن ابوداؤد: 1509، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا ہے)



دعائیں: 18

((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ))

Allahumma Inni Aoozubika Minalkufri Walfaqri, Wa Azabilqabri

ترجمہ: "اے اللہ میں کفر سے، محتاجی سے اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔"

Translation: "O Allah, I seek refuge with You from Kufri, poverty, and the torment of the grave."

(سنن النسائي: 1348، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا ہے)



دعائیں: 19

((اللَّهُمَّ لَا تُخْزِنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ))

"Allahumma Laatukhzini Yawmalqiyaamati".

ترجمہ: "اے اللہ! مجھے قیامت کے دن رسوا نہ فرمانا۔"

Translation: "Oh Allaah do not disgrace me on the Day of Resurrection."

(مسند احمد: 18056، شیخ شعيب الارنؤوط نے اس کو صحیح کہا ہے)



دعا نمبر: 20

(فجر کی نماز کے بعد سومرتبہ) ((لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ
الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ بِإِذْنِهِ الْحَيُّ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ))

“Laailaaha Illallahu, Wahdahu Lasharikalahu, Lahulmulku,
Walahulhamdu, Yuh’ye Wayumeetu Biyadihilkhairu,
Wahowa’alakulli Shai’in Qadeer”.

ترجمہ: "نہیں کوئی معبود برحق مگر اللہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت
اسی کی ہے، ساری تعریف اسی کے لیے ہے، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اس کے ہاتھ
میں بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔"

Translation: “None has the right to be worshiped but Allah
alone, with no partner, to Him belongs all sovereignty and
to Him is the praise, He gives life and gives death, and He is
Ever-Living and does not die; in His Hand is all goodness
and He is Able to do all things.”

(سلسلہ الاحادیث الصحیحہ للالبانی: 2664)



دعا نمبر: 21

((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي))

“Allaahummaghfirli Warhamni Wahdeeni Wa’aafini
Warzuqni”

ترجمہ: "اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے اور مجھے رزق عطا فرما۔"

Translation: "O Allah, forgive me, show mercy to me, guide me and provide for me."

(صحیح ابن خزیمہ: 744، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا ہے [انصار السنہ: سبلیشنز])



دعا نمبر: 22

((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْعَفُورُ))

"Allaahummaghfirli Watub'alaiyya Innaka Antat-tawwaabul Ghafoor."

ترجمہ "اے اللہ! مجھ کو بخش دے، میری توبہ قبول فرما کیونکہ تو توبہ قبول کرنے والا، بخشنے والا ہے۔"

Translation: "O Allaah Forgive me and pardon me. Indeed, You are the Oft-Returning with compassion and Forgiving."

(سلسلہ الاحادیث الصحیحہ للالبانی: 2603)



دعا نمبر: 23

صبح کی نماز سے سلام پھیرنے کے بعد ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا))

Allaahumma Inni As'aluka 'Ilmannaafi'an, Warizqan Tayyiban, Wa'amalan Mutaqabbalan."

ترجمہ: "اے اللہ! میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ روزی اور مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں۔"

Translation: "O Allah, I ask You for beneficial knowledge, goodly provision and acceptable deeds."

(سنن ابن ماجہ: 925، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے)



دعا نمبر: 24

(نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد دس دس مرتبہ) ((لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ))

"Laa'ilaaha Illallaahu Wahdahu Lashareekalahu, Lahulmulku, Walahulhamdu Wahowa Alakulli Shai'in Qadeerun."

ترجمہ: "اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں وہ تنہا ہے، اس کا کوئی ساجھی و شریک نہیں، اس کے لیے بادشاہت اور تمام تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔"

Translation: "None has the right to be worshipped but Allah alone, with no partner or associate. His is the dominion, all praise is to Him, and He is able to do all things."

(سنن الترمذی: 3534، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا ہے)



دعا نمبر: 25

((اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي جَعَلْتَهُ لِي عِصْمَةً، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي جَعَلْتَ فِيهَا مَعَاشِي، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَأَعُوذُ بِعَفْوِكَ مِنْ نِقْمَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجِدِّ مِنْكَ الْجِدُّ))

Allahumma Aslih lee deeni Allazi Ja'altahu Li ismatan,
Wa'aslihi dunyaya Allati ja'alta fiha Ma'ashi, Allaahumma
Inni Auzu bi'rizaaka Min sakhatika, Wa'auzoo Bi'afwika
Min'niqmatika, Wa'auzoo bika Minka, Laamania lima
A'ataita Walamutiya Lima Manata, Walayanfao Zaljaddi
Minkaljaddi.

ترجمہ: "اے اللہ! میرے لیے میرے دین کو درست فرما دے جسے تو نے میرے لیے بچاؤ کا ذریعہ بنایا ہے، اور میرے لیے میری دنیا درست فرما دے جس میں میری روزی ہے، اے اللہ! میں تیری ناراضگی سے تیری رضامندی کی پناہ چاہتا ہوں، اور تیرے عذاب سے تیرے عفو و درگزر کی پناہ چاہتا ہوں، اور میں تجھ سے تیری پناہ چاہتا ہوں، نہیں ہے کوئی روکنے والا اس کو جو تو دیدے، اور نہ ہی ہے کوئی دینے والا اسے جسے تو

روک لے، اور نہ مالدار کو اس کی مالداری بچاپائے گی۔"

Translation: "O Allah, set straight my religious commitment that You have made a protection for me, and set straight my worldly affairs which You have made a means of my livelihood. O Allah, I seek refuge in Your pleasure from Your wrath, and I seek refuge in Your forgiveness from Your punishment, and I seek refuge in You from You. None can withhold what you have given and none can give what you have withheld, and no wealth or fortune can avail the man of wealth and fortune before You(.

(سنن النسائی: 1347، حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ اس کو حسن کہا ہے)

قول اول:

امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبدالمحسن العباد اور المعلمی نے ضعیف کہا۔

قول ثانی:

ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ واثیوبی نے مقبول کہا۔

ملاحظہ (ارشاد بشیر مدنی):

صحیح کہنے والوں میں ابن خزیمہ، ابن حبان، ابن حجر واثیوبی، الارناؤوط، ضیاء الرحمن الاعظمی و وزیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہم ہیں اگر کوئی ان کے تصحیح پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھے تو کوئی حرج نہیں ان شاء اللہ کیونکہ راوی کے بارے میں اختلاف ہے۔

اور اگر کوئی نہ پڑھے نماز کے بعد کے اذکار میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کی بنیاد پر تو اس کا یہ عمل درست ہے، البتہ یہ ذکر میں تین اذکار شامل ہیں جو الگ الگ موقع پر ثابت ہیں البتہ تینوں اذکار اک ہی نسق کے ساتھ ثبوت میں اختلاف ہے اس اختلاف کی دار اصل وجہ یہ ہے کہ راوی کے بارے میں حکم لگانے میں اختلاف واقع ہوا ہے



دعا نمبر: 26

(وتر کی نماز کے بعد با آواز بلند تین مرتبہ) ((سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ))

“Subhanal Malikil Quddusi”

ترجمہ: "سارے عیبوں سے پاک ہے اللہ جو بادشاہ ہے اور پاک ذات ہے۔"


Translation: "Glory be to the Sovereign, the Most Holy."

(سنن النسائی: 1752، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا ہے)



زیر نظر اذکار کی یہ کتاب مختصر ہے اس کی مفصل کتاب بھی آن لائن شائع کر دی گئی ہے جو لوگ مفصل کتاب کو پڑھنا چاہتے ہیں وہ حسب ذیل ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ان شاء اللہ

فرض نمازوں کے بعد پڑھے جانے والے اذکار اور دعائیں



FREE
DOWNLOAD

abmqurannotes.com askmadani.com



www.abmqurannotes.com | www.askislampedia.com | www.askmadanicom

SHAIKH Dr. ARSHAD BASHEER UMARI MADANI waffaqahullah

Hafiz and Aalim, Fazil (Madina University, K.S.A), M.B.A

Founder & Director of AskIslamPedia.com

Chairman: Ocean the ABM School, Hyderabad, TS, INDIA

+91 92906 21633 (WhatsApp only)